



ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے ڈرافٹ کے پہلے راؤنڈ کا پک آرڈر اتوار کو طے کیا جائے گا

لاہور، 2 نومبر 2019ء:

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے ڈرافٹ کے پہلے راؤنڈ کا پک آرڈر اتوار کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں طے کیا جائے گا۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے پہلے راؤنڈ میں پک آرڈر طے کرنے کے لیے پی سی بی ہیڈ کوارٹرز لاہور میں منعقدہ تقریب میں چھ فرنچائزز کے نمائندگان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران شرکت کریں گے۔

تقریب میں ڈرا اور مخصوص پینل کی جانب سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ڈرافٹ کے پہلے راؤنڈ میں کھلاڑیوں کو بیٹ زمین پر رکھ کر روایتی انداز میں پک کیا جائے گا۔

عام طور پر پاکستان میں سنگل وکٹ کے دوران زمین پر نمبرز لکھ کر بیٹ سے سامنے رکھ کر باری نکالی جاتی تھی۔ یہ منفرد طریقہ کار پاکستان میں سکے سے ٹاس کا متبادل بھی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ٹینس اور ٹیپ بال کرکٹ میں اب بھی باری لگانے کا یہ منفرد انداز رائج ہے۔

پہلے راؤنڈ میں پک آرڈر طے ہونے کے بعد خصوصی طور پر تیار کیے گئے ماڈل سے باقی ماندہ 17 راؤنڈز کے لیے پک آرڈر ترتیب دیا جائے گا۔ ڈرافٹ میں تمام راؤنڈز کی باری کی ترتیب 3 نومبر بروز اتوار کو جاری کی جائے گی۔

رواں سال ڈرافٹ میں پک آرڈر کا طریقہ کار گذشتہ سال پی ایس ایل کی گورننگ کونسل کے فیصلوں کی روشنی میں کیا گیا ہے۔

ڈرافٹ کے لیے پک آرڈر کی ترتیب طے ہونے کے بعد پی ایس ایل کی ٹرانسفر اور ریٹینشن ونڈو باضابطہ طور پر کھول دی جائے گی۔ پالیسی کے مطابق رواں سال ہر فرنچائزز زیادہ سے زیادہ 8 کھلاڑیوں کو اسکوآڈ میں برقرار رکھ سکتی ہے۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کا مکمل ایڈیشن پاکستان میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کا آغاز
آئندہ سال فروری میں ہوگا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4